

Calgary



کیا آپ تیار ہیں؟

کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ ان پر کوئی آفت آئے گی۔ کسی آفت سے نمٹنے کیلئے آپ کی بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ ہر ممکن حد تک تیار رہیں۔ کیلگری ایمرجینسی مینجمنٹ ایجنسی آپ کو ہنگامی صورتحال میں بہتر طور پر تیار رہنے کیلئے چند آسان اقدامات کرنے کی دعوت دیتی ہے۔



گھر کا پتہ:

بنگامی حالات ڈائل کریں 9-1-1

- 9-1-1 فائر، پولیس، ایمبولینس
- 403-245-7222 گیس کی ایمرجینسی - ATCO گیس
- 403-514-6100 ENMAX - ایمرجینسی
- 3-1-1 دیگر تمام سٹی سروسز
- 1-800-332-1414 زیرکنٹرول سینٹر
- 8-1-1 ہیلتھ لائن
- 2-1-1 کمیونٹی اور سوشل سروسز
- 5-1-1 البرٹا ٹرانسپورٹیشن کی معلومات
- 403-266-1234 پولیس نان ایمرجینسی لائن

عوامی حفاظت کے مقامات

یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ مدد کیلئے کہاں جا سکتے ہیں۔ عوامی تحفظ کے مقامات آپ کی کمیونٹی کیلئے معلومات اور مدد کیلئے ایک مرکزی مقام ہو سکتے ہیں۔

فائر اسٹیشن

پتہ:

فون نمبر:



پولیس اسٹیشن

پتہ:

فون نمبر:



ہسپتال یا طبی سہولت

پتہ:

فون نمبر:



جڑے رہیں

منصوبہ بنائیں کہ اگر کوئی آفت آتی ہے تو آپ خاندان اور پیاروں سے کیسے رابطہ کریں گے۔ اہم ہنگامی رابطے کی معلومات لکھیں اور فوری طور پر خاندان کے ممبران، دوستوں اور علاقے سے باہر کے رابطوں کی فہرست شامل کریں۔ علاقے سے باہر کے رابطے کا انتخاب کریں جو آپ کے گھر والوں کو ہنگامی صورتحال کے دوران دوبارہ رابطہ کرنے میں مدد دے، کیونکہ اگر مقامی فون لائنیں اوور لوڈ ہو جائیں تو ڈور دراز کی کالیں کرنا آسان ہو سکتا ہے۔

اہم فون نمبر

1. نام:

فون نمبر:

2. نام:

فون نمبر:

3. نام:

فون نمبر:

4. علاقے سے باہر کا نام:

علاقے سے باہر کا فون نمبر:

فیملی کے از سر نو ملاپ کا منصوبہ

کسی ہنگامی صورتحال میں خاندان کے ہر فرد سے ملنے کیلئے اپنی کمیونٹی سے باہر ایک مشترکہ ملاقات کی جگہ متعین کریں۔

پتہ:

انخلاء

اگر آپ کو گھر خالی کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، تو براہ مہربانی فوراً ایسا کریں۔ ہنگامی عملے کی ہدایات پر عمل کریں اور اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے، ان اہم اقدامات پر عمل کریں:

- اگر ایسا کرنے کی ہدایت کی جائے تو یوٹیلیٹیوں کو بند کر دیں۔
- اپنی 72 گھنٹوں کی ایمرجینسی کٹ لے لیں، بشمول اہم دستاویزات اور ادویات۔
- اپنے پالتو جانور اور پالتو جانوروں کا ہنگامی سامان اپنے ساتھ لائیں۔
- اپنے گھر کو تالا لگائیں۔
- ایک نامزد معلوماتی مرکز یا استقبالیہ مرکز میں رجسٹر کروائیں۔
- مزید ہدایات کیلئے اپنے ٹی وی، ریڈیو یا calgary.ca پر نظر رکھیں۔

موجودہ جگہ پر پناہ گاہ

بعض مخصوص حالات میں آپ کو "موجودہ جگہ پر پناہ گاہ" استعمال کرنے کی ہدایت کی جا سکتی ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے موجودہ مقام کے اندر پناہ لیں گے، خواہ وہ آپ کا گھر ہو، کام کی جگہ ہو، گاڑی ہو یا وہ جگہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں۔

درج ذیل اقدامات آپ کے تحفظ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں مدد دیں گے:

- تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیں۔
- اگر آپ کو کوئی خطرناک مواد نکلتا ہوا نظر آتا ہے یا اس کا شبہ ہے تو پنکھے بند کر دیں اور نکاسی کے تمام راستے بند کر دیں۔ گیسوں، بخارات یا دھوئیں کو باہر رکھنے کیلئے ان پرکوڑے کے تھیلوں کو ٹیپوں سے لگا دیں۔ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو پنکھے بند کر دیں اور نکاسی کے تمام راستے بند کر دیں۔
- اپنی ایمرجینسی کٹ اپنے پاس رکھیں، بمع ایک ریڈیو اور ایک سیل فون۔
- اپنے ٹی وی، ریڈیو یا calgary.ca پر نظر رکھیں جب تک کہ آپ کو یہ نہ بتا دیا جائے کہ سب محفوظ ہے یا آپ کو گھر خالی کرنے کا مشورہ دے دیا جاتا ہے۔



طبی معلومات

اگر آپ کو اپنا گھر چھوڑنے اور طبی مدد تک رسائی کی ضرورت ہو تو اپنے خاندان کیلئے اہم طبی معلومات کا آسانی سے دستیاب ہونا بہت ضروری ہے۔

فزیشن

نام:

فون نمبر:

فارمیسی

نام:

فون نمبر:

البرٹا ہیلتھ کارڈ کی معلومات

1. نام:

البرٹا ہیلتھ کارڈ نمبر:

2. نام:

البرٹا ہیلتھ کارڈ نمبر:

3. نام:

البرٹا ہیلتھ کارڈ نمبر:

4. نام:

البرٹا ہیلتھ کارڈ نمبر:

ادویات

1. نام:

ادویات: خوراک:

2. نام:

ادویات: خوراک:

3. نام:

ادویات: خوراک:

4. نام:

ادویات: خوراک:

اہم دستاویزات

اہم دستاویزات کی نقول محفوظ جگہ پر رکھیں۔ دستاویزات کی ڈیجیٹل نقول، تصاویر اور کسی بھی ایسی چیز کو شامل کرنے پر غور کریں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں۔



- پاسپورٹ
- پیدائشی سرٹیفکیٹ
- نکاح نامہ
- بیمہ پالیسیاں
- تعلیمی ریکارڈ
- بینک اکاؤنٹ نمبر
- گھریلو اشیاء کی فہرست کا ریکارڈ
- سیفٹی ڈیپازٹ باکس کی چابی
- وصیتیں اور مختار نامے
- کریڈٹ کارڈ نمبر اور رابطے
- پالتو جانوروں کی رجسٹریشن،
- تصویریں، ڈاکٹر کا نام اور طبی معلومات
- وارنٹیز
- سوشل انشورنس نمبر
- ڈرائیونگ لائسنس نمبر
- امیونائزیشن اور میڈیکل ریکارڈ
- انکم ٹیکس ریٹرنز
- فیملی ممبران کی حالیہ تصاویر
- صحت کی نگہداشت کے نمبر
- الیکٹرانک فائلوں اور تصاویر کا یو ایس بی بیک آپ

اپنے خاندان اور گھر کو بنگامی صورت حال کیلئے کیسے تیار کریں، کے بارے میں مزید جانیں۔ یہ جاننے کیلئے کہ کیلگری میں کیا خطرات ہیں، ایمرجینسی ایکشن پلان کیسے بنایا جائے، 72 گھنٹے کی کٹ کیسے بنائی جائے اور کیلگری ایمرجینسی مینجمنٹ ایجنسی کا ریڈی کیلگری کورس کرنے کیلئے، calgary.ca/getready ملاحظہ کریں۔


72 گھنٹے کی ایمرجینسی کٹ

ہنگامی صورتحال میں، جواب دہندگان ان لوگوں کی مدد میں مصروف ہو سکتے ہیں جو فوری خطرے میں ہیں۔ 72 گھنٹے کی کٹ میں ہنگامی صورتحال میں تین دن تک آپ اور آپ کے خاندان کی مدد کیلئے سامان موجود ہے۔



کھانا اور پانی

- فی شخص فی دن چار لیٹر پینے کا پانی
- خراب نہ ہونے والی خوراک
- (کھانے اور پانی کو سال میں ایک بار چیک کرنا اور تبدیل کرنا یاد رکھیں)



لوازمات

- وائٹڈ آپ یا بیٹری سے چلنے والی ٹارچ اور بیٹریاں (ہر سال بیٹریاں تبدیل کریں)
- وائٹڈ آپ یا بیٹری سے چلنے والا ریڈیو اور بیٹریاں (ہر سال بیٹریاں تبدیل کریں)
- اضافی کپڑے (گرم اشیاء سمیت) اور کمبل یا سلپنگ بیگز



بیت الخلاء

- فرسٹ ایڈکٹ اور بیت الخلاء



خصوصی ضروریات کی اشیاء

- بچوں کی ضروریات (ڈائپیز، فارمولا، بوتلیں، وغیرہ)
- نسخے کی ادویات
- نسخے کی عینکیں یا کانٹیکٹ لینز کا اضافی جوڑا
- پالتو جانوروں کی اشیاء (کھانا، پٹا، تھوتھنی پر چڑھانے والا غلاف، ادویات، وغیرہ)

ذاتی دستاویزات اور اشیاء

- چھوٹے نوٹوں کی صورت میں کچھ نقد رقم
- اہم دستاویزات کی نقول



کٹ کے مواد کی تجویز کردہ مکمل فہرست کیلئے، calgary.ca/getready ملاحظہ کریں۔

باخبر رہیں

کسی آفت کے دوران مختلف ذرائع سے خبریں اور آپ ڈیٹس اکٹھا کرنے کے قابل ہونا ضروری ہے۔

ویب سائٹس

calgary.ca

weather.gc.ca

ایپس اور الرٹس

alertready.ca

emergencyalert.alberta.ca

سوشل میڈیا

facebook.com/cityofcalgary 

@CityofCalgary 

@CalgaryPolice 

@Safety_Canada 